

برائے فوری اجراء

## سٹی آف برامپٹن آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے میک آئی ٹی سیکورٹی 2019: مینوفیکچرنگ کے شعبے میں سائبر سیکورٹی

مشترکہ میزبانی منجانب ریٹرنس یونیورسٹی سائبر سیکورٹی کیٹالسٹ اور  
کینیڈین سنٹر فار سائبر سیکورٹی، بمقام لائن ہیڈ گالف کلب، بروز جمعرات مورخہ 25 اپریل 2019

برامپٹن، آن (8 اپریل 2019) - بروز جمعرات مورخہ 25 اپریل کو میک آئی ٹی سیکورٹی 2019 کے سلسلے میں برامپٹن میں منعقد ہونے والی ایک روزہ کانفرنس کے دوران سائبر سیکورٹی اور ایڈوانسڈ مینوفیکچرنگ کے شعبوں سے تعلق رکھنے والی رہنماء شخصیات، سینئر حکومتی افسران، تعلیمی محققین اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے نمائندگان مل کر بیٹھیں گے اور کینیڈا کے مینوفیکچرنگ کے شعبوں کو درپیش ممکنہ سائبر حملوں سے بچاؤ کے حوالے سے بات چیت کریں گے اور یہ کہ ان خطرات سے بچاؤ اور ان کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے۔

میک آئی ٹی سیکورٹی 2019 کو ریٹرنس یونیورسٹی کے برامپٹن میں موجود نئے سنٹر فار سائبر سیکورٹی، جسے سائبر سیکورٹی کیٹالسٹ بھی کہا جاتا ہے اور کینیڈا کی حکومت کے کینیڈین سنٹر فار سائبر سیکورٹی کی مشترکہ میزبانی میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ یہ کانفرنس سٹی آف برامپٹن کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔

کلیدی مقررین اور پینالٹس میں دیگر شرکت کنندگان کے علاوہ سیمنز کینیڈا کے سینئر رہنماء، کینیڈین سنٹر فار سائبر سیکورٹی، RCMP، بمبارڈیئر، سیسکو، برجائیک گروپ، بلیک بیری اور پالو آلتو نیٹ ورکس کی جانب سے نمائندگان شامل ہوں گے۔

کاروباری اداروں اور مینوفیکچرنگ کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے ممبران کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ مزید تفصیلات اور تقریب میں رجسٹریشن کرانے کے لیے، براہ کرم [makeitsecure.ca](http://makeitsecure.ca) ملاحظہ فرمائیں۔ ٹکٹوں پر 50% رعایت حاصل کرنے کے لیے، ڈسکاؤنٹ کوڈ "ECO2019" درج کریں۔

### اقتباسات

"دنیا بھر میں سیکورٹی کے شعبے میں تربیت یافتہ پیشہ وارانہ ماہرین کی فوری اور اشد ضرورت ہے۔ کینیڈا میں مزدوروں کی مانگ میں 7 فیصد سالانہ بڑھوتری کا اندازہ لگایا گیا ہے اور عالمگیر سطح پر سائبر سیکورٹی کی صنعت کے بارے میں 2023 تک سالانہ بنیادوں پر US\$200 بلین تک پہنچنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ ریٹرنس یونیورسٹی کے ساتھ اشتراک میں سٹی آف برامپٹن اپنے شہر میں ایک نیشنل سنٹر فار سائبر سیکورٹی کا قیام عمل میں لانا چاہتا ہے۔ تاکہ عالمگیر سطح کے اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے ملازمین اور وسائل مہیا کیے جا سکیں۔"

- میئر پیٹرک براؤن

"مینوفیکچرنگ کے شعبے میں سائبر سیکورٹی کے حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے متعلقہ رہنماؤں کی کانفرنس کی مشترکہ میزبانی کرنے کے لیے ہم انتہائی پرجوش ہیں۔ مینوفیکچرنگ کے شعبے میں نہایت تیزی سے تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اور کینیڈا کی معیشت کے اس انتہائی اہم ستون کو درپیش ممکنہ سائبر حملوں کے خدشات پر ہم سب کو فکرمند ہونا چاہیے۔ جب سے ہم نے برامپٹن میں اپنا سائبر سیکورٹی کیٹالسٹ بنایا ہے، اس کی مشترکہ میزبانی میں منعقد کی جانے والی یہ پہلی کانفرنس ہے اور ہم پورے برامپٹن، اونٹاریو، کینیڈا اور امریکہ سے آنے والے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے بہت بیتاب ہیں۔"

- چارلس فیٹلے، ایگزیکٹو ڈائریکٹر، سائبر سیکورٹی کیٹالسٹ، ریٹرنس یونیورسٹی

سائبر سیکورٹی کیٹالسٹ، ریٹرسن یونیورسٹی کے برامپٹن میں موجود نئے سنٹر فار انویشن اور سائبر سیکورٹی کے ساتھ اشتراک کے بارے میں اعلان 2018 میں ستمبر کے مہینے میں کیا گیا تھا۔ کیٹالسٹ، کینیڈا کے رہائشیوں اور کاروباری اداروں کی حوصلہ افزائی کرے گا کہ وہ اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور ٹریننگ اور سرٹیفیکیشن؛ کاروباری حلقوں کی سائبر سیکورٹی میں بتدریج اضافے؛ R&D کی مہیا کردہ معاونت اور عوامی آگاہی کے ذریعے سائبر سیکورٹی کے چیلنج سے نمٹنے کی کوشش کریں۔ پورے کینیڈا اور برامپٹن میں موجود اس شعبہ سے تعلق رکھنے والی قیادت، حکومتوں اور اس شعبہ میں کام کرنے والے عوامی اداروں کی جانب سے اشتراک کے ذریعے کیٹالسٹ کی سرگرمیوں کو بھرپور معاونت فراہم کی جائے گی۔

سائبر سیکورٹی کیٹالسٹ کے بارے میں مزید معلومات کے لیے [www.cybersecurecatalyst.ca](http://www.cybersecurecatalyst.ca) ملاحظہ کریں۔

کینیڈین سنٹر فار سائبر سیکورٹی کے بارے میں مزید معلومات کے لیے <https://www.cyber.gc.ca/en/> ملاحظہ کریں۔

سٹی آف برامپٹن کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، ملاحظہ کریں [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر یا ہمیں ٹوئٹر، فیس بک اور [انستگرام](https://www.instagram.com/brampton) پر فالو کریں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)